


FORM OF ORDER SHEET

Court of _____

Case No. - 539/2023

S.No.	Date of order proceedings	Order or other proceedings with signature of judge
1	2	3
1-	10/03/2023	<p>The appeal of Mr. Muhammad Arif presented today by Sheikh Sohail Puri Advocate. It is fixed for preliminary hearing before touring Single Bench at D.I.Khan on _____. Notices be issued to appellant and his counsel for the date fixed.</p> <p>By the order of Chairman</p> <p> REGISTRAR</p>

THE HONOURABLE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR.

Service Tribunal Appeal No: 539/2023

Muhammad Arif

VERSUS


The Government of Khyber Pakhtunkhwa, & others

INDEX


S #	Description of Documents	Annexure	Page #
1	Grounds of Appeal		1-4
2	Copies of Appointment order.	"A"	5
3	Copy of Order dated 23.06.2021.	"B"	6
4	Copy of Representation	"C"	7-8/1
5	Copy of Final Order dated 13.02.2023	"D"	12
6	Copy of Order Book dated 07.08.2020	"E"	13-14
5	Vakalatnama/power of attorney.		

dt. 08.03.2023

APPELLANT


Muhammad Arif

Through Counsel


SHEIKH SOHAIL NURI

Advocate High Court

①

THE HONOURABLE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR.

Service Tribunal Appeal No: 539/2023

Muhammad Arif S/O Khan Malook Khan, Resident of Wanda Baloch,
RattaKulachi, Dera Ismail Khan.Appellant

VERSUS

1. The Government of Khyber Pakhtunkhwa, through Secretary Secondary and Elementary Education Department, Peshawar.
2. The Director Secondary and Elementary Education Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
3. District Education Officer (Male) Dera Ismail Khan.
4. Head Master GMS Wanda Balochan D.I.Khan.
5. Director EMA (Education Monitoring Authority) D.I.Khan.
6. Officer On Duty EMA, D.I.Khan. **DEO, OFFICE DIKHAAN** Respondents

**A P P E A L UNDER SECTION 4 KHYBER KHYBER PAKHTUNKHWA
SERVICE TRIBUNAL ACT, 1974.**

The Appellant ; amongst other grounds; respectfully submits as under;

1. That through the instant Appeal, the Appellant humbly seeks indulgence of this Honorable Tribunal for setting aside of Order No.12486 dated 23.06.2021, issued by Respondent No.3, whereby, the Appellant faced major penalty of COMPULSORY RETIREMENT, while he was serving as Naib Qasid and 13.02.2023, passed by Respondent No.2, whereby representation of the appellant was dismissed.
2. That the Appellant was appointed as Naib Qasid in GMS Wanda Balochan District Dera Ismail Khan vide Order No.3374-79/EDO/CT(M) dated 14.03.2011. Subsequently, Respondent No. 3 dispensed with the service of the appellant vide Order dated 23.06.2021 on the basis of alleged absence from the duty, made by Respondent No.6 who was serving under control of Respondent No.5. The services of the Appellant were dispensed without holding any inquiry and other Codal formalities. Representation of appellant was also dismissed by the Respondent No.2 vide Order dated 13.02.2023. Copies of the Appointment Order, Order dated 23.06.2021, Representation and the Final Order dated 13.02.2023 are enclosed as Annexure A, B, C & D.
3. That since the date of appointment, the Appellant served the Department with devotion, dedication, and work honestly, efficiently, diligently and to the

2

entire satisfaction of his superiors and there is no iota of complaint against the Appellant of any kind. The service rendered by the appellant was always appreciated by the superiors.

4. That the allegations made by Respondent No.6, that on his visiting date, Appellant was absent from his duty, are merely false, baseless, factitious, as the Appellant was assigned night duty by the respondent No. 4 vide Order Book dated 07.08.2020 and the act of the respondents is based on malafide and the same is based on political wills and they just want to oblige their blue eyed. Copy of Order Book dated 07.08.2020 enclosed as **Annexure E**.
5. That the Appellant was neither given any show cause notice nor hearing and also not heard by competent authority and he has been condemned unheard.
6. That Respondent No.3 relied on a bogus and untrue report of respondent No.6 and never conducted any enquiry nor followed any other codal formalities and imposed major penalty of compulsory retirement, which shows common malafide intentions of respondents.
7. That aggrieved of order dated 23.06.2021, passed by respondent No.3, the appellant preferred departmental appeal/representation before Respondent No.2, however, same was dismissed vide order dated 13.02.2023.
8. That during the proceedings of representation of Appellant, Respondent No. 3 once again showed his malafide as he submitted beyond the fact comments on which led the Respondent No.2 was persuaded through dismissing of his representation.
9. That order dated 23.06.2021 passed by Respondent No.3 and order dated 13.02.2023 passed by Respondent No.2 are arbitrary, suffering from surmises and conjectures and liable to be set aside.

GROUNDS

- I. That all the proceedings against Appellant were conducted in a slipshod and hasty manner.
- II. That the Appellant served the Department with devotion, dedication, honestly, efficiently, diligently and never shown any negligence nor remained absent from the duty.
- III. That from the date of his appointment, 14.03.2011, there is no iota of complaint against the appellant of any kind.
- IV. That a perusal of inquiry report reveals that the enquiry officer has relied upon the opinion/report of the respondent No.6 without any reasons and details, therefore, findings in these circumstances are not sustainable.
- V. That the evidence produced by the Respondents is too weak to be relied upon for the purpose of imposing major penalty, the evidence is giving rise to doubt in favor of the appellant, therefore, penalty is not sustainable. The

3

appellant was never associated with the inquiry conducted by concerned office.

- VI. That the evidence produced by the Respondents is based upon personal assumptions and presumptions, the evidence is sketchy and facts have not been proved, therefore, Appellant could not be held liable for penal action.
- VII. That the appellant had been deceived by tout mafia working within premises of the office concerned for their petty interest play havoc with career people like the appellant. There was no mensrea on the part of appellant; therefore, his career is required to be protected if he otherwise qualifies.
- VIII. That the reports submitted by the officer(s) concerned were self-contradictory, therefore, those could not be relied upon for imposing major penalty to the appellant.
- IX. That, the instant appeal is well within time but, if required, delay in filing of instant appeal may be condoned.
- X. That without prejudice to what has been discussed above it is submitted that the imposition of major penalty against the appellant is in violation of principles of natural justice.


PRAYER

In aforementioned circumstances, therefore, it is humbly prayed that the order dated 23.06.2021 passed by Respondent No.3 and Order dated 13.02.2023 passed by Respondent No.2 may kindly be set aside and Appellant may be reinstated in service with all back benefits.

dt. 08.03.2023

APPELLANT

Muhammad Arif
Through Counsel


SHEKH SOHAIL PURI
Advocate High Court

CERTIFICATE:

It is certified that upon instructions of the client it is the 1st appeal preferred before this Honorable Tribunal against the impugned orders dated 23.06.2021 & 13.02.2023.


Muhammad Arif

4

AFFIDAVIT

I, Muhammad Arif S/O Khan Malook Khan, Resident of Wanda Baloch, RattaKulachi, Dera Ismail Khan, the appellant, do hereby solemnly affirm and declare on Oath that all the Para-wise contents of this appeal are true and correct to the best of my knowledge and belief; and that nothing has been deliberately concealed or kept from this learned Tribunal.

cf. - 08 - 03 - 2023


Deponent



5

OFFICE OF THE EXECUTIVE DISTRICT OFFICER
(ELEMENTARY & SECONDARY EDUCATION)
DERA ISMAIL KHAN

Ann A

OFFICE ORDER

Consequent upon the death of Din Aslam Naib Qasid G.M.S Wanda Balochan D.I.Khan on 18-10-2010 during service his legal Heir Muhammad Arif R/O Wanda Balochan District D.I.Khan is hereby appointed as Naib Qasid against vacant post at G.M.S Wanda Balochan in G.P.S. under the rules in the interest of public service with immediate effect on the following terms and conditions.

1. His service will be considered as regular without pension/gratuity in terms of section-19 of the NWFP Civil Servants Act-1973 amended in 2005.
2. He will contribute towards CPI@10% of the minimum of Pay and 10% contribution will be made by the Government.
3. He will be governed by such rules & regulations as may be prescribed by the Govt. from time to time, for the category to which he belongs.
4. His appointment is made purely temporary and liable to termination at any time without assigning any reasons.
5. One-month pay will be forfeited to Govt. in case of resignation without prior notice. The period of giving notice is one month before resignation.
6. His original certificates/degrees should be got verified from the respective boards/University before release of pay. All expenses will be borne by the candidate.
7. He is required to join the post within 30 days, failing which the appointment order will stand cancelled automatically.
8. The appointment is made subject to the condition that the candidate is permanent domiciled of District D.I.Khan.
9. He is required to produce health and age certificate from the Medical Superintendent D.I.Khan.
10. Charge Reports should be sent to all concerned.
11. No TA/DA is allowed.
12. Death certificate should be got verified by the concerned authority.

Sd/-

Executive District Officer
Elementary & Secondary
Education D.I.Khan.

Encls: NO 3374-79 /DO/CI (M)

Dated D.I.Khan the 14/03/11

Copy of the above is forwarded for information & n/action to:

1. The Director (E& S) Education K.P.K. Peshawar.
2. The District Coordination Officer D.I.Khan.
3. The District Accounts Officer D.I.Khan.
4. The District Officer (Male) E & SE, D.I.Khan.
5. The Head Master G.M.S Wanda Balochan.
6. The Official concerned.

attested

Sd/-
ALL

Sd/-
Executive District Officer
(E& S) Education D.I.Khan



6

Annexure

2

Annex: B⁵

**OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER
(MALE) DERA ISMAIL KHAN**

Tell: 09669280131
Email: deom.di@kpese.gov.pk

No. 12481

Dated DIKhan the 23/06/2021

WHERE AS you Mr. MUHAMMAD ARIF while serving as Naib Qasid at GMS Wanda Balochan DIKhan were proceeded for having committed the following acts which constitutes inefficiency and misconduct under rules 3 sub rules (a),(b) & (d) of the Khyber Pakhtunkhwa Govt: Servants (Efficiency & Discipline) rules 2011.

- a. That you were appointed against the post of sweeper vide this office Endst No. _____ dated _____ whereas you submitted arrival on _____.
- b. That you remained absent from duties as reported by EMA (Education Monitoring Authority) as mentioned in various show cause notices served upon you.

AND WHERE AS show cause notices were served upon you vide this office No. 16106 dated 12/06/2019, No. 21570 dated 20/08/2019, No. 26169 dated ___/03/2019, No. 29663 dated 18/10/2019 and No. 19501-05 dated 10/10/2020 by the competent authority i.e. District Education Officer (Male) DIKhan.

AND WHERE AS your reply to any of show cause notices was not received.

AND WHERE AS you were called to be heard in person vide 22529-36 dated 02/11/2020 but you were failed to appear on personal hearing.

AND WHERE AS you were intimated to join the duties through public notice in Daily Mashriq dated 18/02/2021 within 15 days but you failed to do so.

NOW THEREFORE the Competent Authority in exercise of the power conferred under Sub Rules 4-b (ii) and 9 of Govt: of Khyber Pakhtoonkhawa, Establishment & Administration Department Rules 2011, I Mr. Musarrat Hussain Khan District Education Officer (Male) DIKhan as competent authority is pleased to impose the Major Penalty of "COMPULSORY RETIREMENT" upon Mr. MUHAMMAD ARIF Naib Qaid at GMS Wanda Balochan DIKhan from the date of his first show cause notice i.e. 12.06.2019. Moreover, the absence period will be considered as Extra Ordinary Leave (EOL) without pay.

Musarrat Hussain Khan

DISTRICT EDUCATION OFFICER
(MALE) DIKHAN.

Endst: No. 12482-85 /PF

Dated 23/6/ /2021

Copy for information & necessary action to the:-

16. Director Elementary & Secondary Education Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
17. Deputy Commissioner Dera Ismail Khan.
18. District Comptroller of Accounts DIKhan.
19. Principal/ Head Master/SDEO concerned.
20. Master: file.

quested

Serv / 44c

Musarrat Hussain Khan

DISTRICT EDUCATION OFFICER
(MALE) DIKHAN



(6) Annexure
OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER
(MALE) DERA ISMAIL KHAN

Tel: 09669280131
Email: deom.di@kpese.gov.pk

Aux: B⁵

No. 12481

Dated DIKhan the 23/06/2021

WHERE AS you Mr. MUHAMMAD ARIF while serving as Naib Qasid at GMS Wanda Balochan DIKhan were proceeded for having committed the following acts which constitutes inefficiency and misconduct under rules 3 sub rules (a),(b) & (d) of the Khyber Pakhtunkhwa Govt. Servants (Efficiency & Discipline) rules 2011.

- a. That you were appointed against the post of sweeper vide this office Endst No. _____ dated _____ whereas you submitted arrival on _____.
- b. That you remained absent from duties as reported by EMA (Education Monitoring Authority) as mentioned in various show cause notices served upon you.

AND WHERE AS show cause notices were served upon you vide this office No. 16106 dated 12/06/2019, No. 21570 dated 20/08/2019, No. 26169 dated ___/03/2019, No. 29663 dated 18/10/2019 and No. 19501-05 dated 10/10/2020 by the competent authority i.e. District Education Officer (Male) DIKhan.

AND WHERE AS your reply to any of show cause notices was not received.

AND WHERE AS you were called to be heard in person vide 22529-36 dated 02/11/2020 but you were failed to appear on personal hearing.

AND WHERE AS you were intimated to join the duties through public notice in Daily Mashriq dated 18/02/2021 within 15 days but you failed to do so.

NOW THEREFORE the Competent Authority in exercise of the power conferred under Sub Rules 4-b (i) and 9 of Govt. of Khyber Pakhtunkhwa, Establishment & Administration Department Rules 2011, I Mr. Musarrat Hussain Khan District Education Officer (Male) DIKhan as competent authority is pleased to impose the Major Penalty of "COMPULSORY RETIREMENT" upon Mr. MUHAMMAD ARIF Naib Qaid at GMS Wanda Balochan DIKhan from the date of his first show cause notice i.e. 12.06.2019. Moreover, the absence period will be considered as Extra Ordinary Leave (EOL) without pay.

DISTRICT EDUCATION OFFICER
(MALE) DIKHAN

DISTRICT EDUCATION OFFICER
(MALE) DIKHAN

Dated 23/6/ /2021

Endst: No. 12482-85 /PF

Copy for information & necessary action to the:-

16. Director Elementary & Secondary Education Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
17. Deputy Commissioner Dera Ismail Khan.
18. District Comptroller of Accounts DIKhan.
19. Principal/ Head Master/SDEO concerned.
20. Master file.

Qasid

DISTRICT EDUCATION OFFICER
(MALE) DIKHAN

Serv
442

(7)

بعدالت جناب ڈائریکٹر ایجوکیشن میل پشاور

Annex

ڈیپارٹمنٹ ایچل نمبر سال 2021

ڈیپارٹمنٹ ایچل برخلاف آرڈر نمبر 12481 مورخہ 23-6-2021 ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر میل

ڈیرہ اسماعیل خان

جناب عالی!

1- یہ کہ مسائل ایپلانٹ محمد عارف ناصیب قاصد گورنمنٹ مڈل سکول وانڈہ بلوچاں ڈیرہ اسماعیل خان محمد تعینات رہا ہے جو کہ 2011 میں بھرتی ہوا تھا اور اپنی ڈیوٹی سرانجام دے رہا ہے اور کبھی بھی غیر حاضری نہیں کی ہے سکول کے حاضری رجسٹر میں لگانا نہ حاضر ہوتا رہا ہے اور رجسٹر ڈ میں حاضری درج ہے۔

2- یہ کہ آفس آرڈر نمبر 12481 مورخہ 23-6-2021 کو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر میل ڈیرہ اسماعیل

خان میں ایک آرڈر جاری کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو آفس آرڈر نمبر 16106

مورخہ 12-6-2019 اور نمبر 21570 مورخہ 20-8-2019 اور 26169 مورخہ

28-3-2019 اور نمبر 29663 مورخہ 18-10-2019 اور نمبر 19501-05 مورخہ

10-10-2020 کو مجازاً تھاری میل نے نوٹس دیے تھے کہ لیکن آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں

اور آرڈر نمبر 36-22529 مورخہ 2-11-2020 کو نوٹس دیا تھا کہ آپ حاضر ہوں۔

اور اخبار روزنامہ مشرق کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ چندہ یوم کے اندر جواب دیں لیکن ایپلانٹ کو کوئی

نوٹس نہیں ارسال ہوئے اور ان نوٹس وغیرہ کے بارے میں ایپلانٹ کو کوئی علم نہ ہے اور ایپلانٹ


اپنی ڈیوٹی احسن طریقے سے سرانجام دے رہا ہے۔


3- یہ کہ مورخہ 23-6-2021 کا آرڈر جس میں ایپلانٹ کو Comulsory Retirement

رینائرڈ کیا گیا ہے جو کہ غلط ہے خلاف قانون ہے اور خلاف شریعت ہے۔ بدیں دجہ آرڈر نمبر 12481

مورخہ 23-6-2021 ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر میل کے آرڈر کو خارج فرمایا جاوے تاکہ انصاف

ہو سکے۔





(8)

4- یہ کہ اپیلانٹ غریب آدمی ہے اور جس کا گزر بس اسی نوکری سے ہے اور اپیلانٹ کے چھوٹے بچے ہیں اور اپیلانٹ کی نوکری کو بحال کیا جانے اور آرڈر آرڈر نمبر 12481 مورخہ 23-6-2021 کو منسوخ فرمایا جاوے۔

لہذا استدعا ہے کہ منظوری اپیل سروس فرماتے ہوئے من اپیلانٹ کی درخواست منظور فرما کر اپیلانٹ کی دادرسی فرمائی جائے اور سروس بحال کی جاوے۔


مورخہ

محمد عارف _____ اپیلانٹ

بیان حلفی:-

خلفاً بیان کیا جاتا ہے کہ جملہ مراتب اپیل ہذا تا حد علم و یقین صحیح و درست ہے۔ اور پچھوں قسم اپیل کسی دیگر عدالت میں دائر نہ کی گئی ہے اور نہ ہی زیر سماعت ہے۔

محمد عارف _____ اپیلانٹ



S. M. A. _____
Attc

Q. No. 12481



DIRECTORATE OF ELEMENTARY & SECONDARY EDUCATION
KHYBER PAKHTUNKHWA PESHAWAR.

No. 2110 /F.No. /A-20/C-IV/D.I Khan/Vol-1/2

Dated Peshawar the _____ /2022

Phone: 091-9225344

Email: ddadm.es@gmail.com

To
The District Education Officer
(Male) D.I Khan.

Subject: APPEAL FOR RE-INSTATEMENT.

Memo:

I am directed to refer to the subject noted above and to enclose herewith a copy of an appeal in r/o Mr. Muhammad Arif Ex- Naib Qasid GMS Wanda Balocha District D.I Khan.

ask
You are therefore directed to submit detail report/comments at an early date.

Assistant Director (Admn)
Directorate E& Secondary Education
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar

Endst; No. _____

Copy forwarded to the: -

1. Mr. Muhammad Arif Ex- Naib Qasid GMS Wanda Balocha District D.I Khan.
2. PA to Director Elementary & Secondary Education Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.
3. Master File.

[Signature]
28/11/22

Assistant Director (Admn)
Directorate E& Secondary Education
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar

[Signature]
28/11/22

30/11/22



10

**OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER
(MALE) DERA ISMAIL KHAN**

Phone No. 0966-9280131, 0966-9280128, emisdikhan@gmail.com

No. 11/07

Dated DIKhan the 17/10/2023

To,


The Director,
Elementary and Secondary Education, Department
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.

SUBJECT: APPEAL FOR REINSTATEMENT

Memo:

Reference to your esteemed office Letter No. 2111, F.No/A-20/C-IV/DIKhan, dated 28.11.2022, it is submitted that:

1. Mr. Muhammad Arif, appointed as Naib Qasid, at GMS Wanda Balochan, DIKhan.
2. That the Headmaster GMS Wanda Balochan, vide his Order Book dated .../.../20... directed Mr. Muhammad Arif to work in the afternoon/second time for security as a chowkidar.
3. That Mr. Muhammad Arif remained absent from his duty as per reports of the FMA during the Monitor's visit.
4. That several notices of show cause have been issued to the official Mr. Muhammad Arif, but no reply received to the undersigned.
5. That several notices of personal hearing have been issued to the official Mr. Muhammad Arif, but no attendance observed before the undersigned.
6. That the same notices of show cause were then published in two leading dailies, yet no heed was ever paid by the official Mr. Muhammad Arif.
7. After fulfillment of all codal formalities, the undersigned was left with no other option than to impose Major Penalty of "Compulsory Retirement" upon the official Mr. Muhammad Arif, Naib Qasid GMS Wanda Balochan, DIKhan, hence penalized.


DISTRICT EDUCATION OFFICER
(MALE) DERA ISMAIL KHAN



OFFICE OF THE DISTRICT EDUCATION OFFICER
(MALE), DERA ISMAIL KHAN

Tell: 09669280128- 09669280131

Email: emisdikhan@gmail.com

11

No. 6735

Dated DIKhan the 08/06/2022


To
The Director
Elementary & Secondary Education Department
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.

Subject: COMMENTS / DETAIL OF CLASS-IV.

Memorandum

It is submitted for your kind information that the undersigned has imposed major penalties of the following habitual absent of non-teaching staff under the Efficiency & Deficiency rules 2011. In this connection all the relevant record is being submitted for information please.

Sr	Official Name, Designation	Place of Posting	Action Taken	Remarks
1	Mr. Waris Khan, Chowkidar	GPS Wazir Abad	Removal from Service	1. Detail of absent report from IMU. 2. Show cause notices. 3. Minutes of meeting (DSC). 4. Order notification removal from service. 5. Copy of detail comments by SDEO (M) DIKhan.
2	Mr. Zullay Khan, Sweeper	GMS Wanda Balochan	Compulsory retirement	1. Detail of absent report from IMU. 2. Show cause notices. 3. Minutes of meeting (DSC). 4. Order notification compulsory retirement. 5. Copy of detail comments by Headmaster GMS Wanda Balochan DIKhan.
3	Mr. M. Arif, Naib Qasid	GMS Wanda Balochan	Compulsory retirement	1. Detail of absent report from IMU. 2. Show cause notices. 3. Minutes of meeting (DSC). 4. Order notification compulsory retirement. 5. Copy of detail comments by Headmaster GMS Wanda Balochan DIKhan.


DISTRICT EDUCATION OFFICER
(MALE) DERA ISMAIL KHAN



DIRECTORATE OF ELEMENTARY & SECONDARY EDUCATION
KHYBER PAKHTUNKHWA PESHAWAR.

No. 8338

/F.No./A-207C-IV/DI Khan/1/2

Dated Peshawar the 13/02/2023

Phone: 091-9225344

Email: ddadmn.esc@gmail.com

To :

Muhammad Arif
Ex-Naib Qasid GMS Wanda Baloch
DI Khan

[Handwritten signature]

Ann "D"

Subject: APPEAL FOR REINSTATEMENT

Memo:

I am directed to refer to your appeal received in this office diary NO. 1151 dated 23/11/2022 on the subject cited above and to state that your appeal has been examined/analyzed by this office and as well DEO (M) DI Khan letter NO.11100 dated 17.01.2023, hence to inform you that your appeal has been **rejected** by the competent authority.

[Handwritten signature]
13/2/23

Assistant Director (Admn)

Directorate E& Secondary Education
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar

Endst; No. _____/

Copy forwarded to the: -

1. District Education Officer (M) DI Khan letter No.11100 dated 17.01.2023
2. PA to Director Elementary & Secondary Education Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.
3. Master File.

Assistant Director (Admn)

Directorate E& Secondary Education
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
13/2/23

13/02/23

مورخہ 07/08/2008 محترم جناب چوکیدار محمد عارف

السلام علیکم
جیسا کہ آئیے علم میں ہے کہ محلہ تعلیم
کی طرف سے سکول، فضا کو سولر سسٹم کی مد میں
رقم دی گئی تھی۔ افسرانِ مالا کے حکم سے اسی رقم
سے سولر سسٹم سکول فضا میں نصب کر دیا گیا

یہ چونکہ سکول کے تمام سرکاری املاک کی
ذمہ داری چوکیدار کی ہوتی ہے۔ لہذا آپ کو مندرجہ آرڈر
مطلع کیا جا رہا ہے کہ سکول فضا میں نصب سکول سولر سسٹم کی دیکھ
میں ملنے کی طور پر آئیے سوچی جاتی ہے۔ اور آپ کی ذمہ داری ہے

کہ آپ اس سسٹم کا خیال رکھیں۔ آرڈر تک پہنچ کر سولر سسٹم فرما

والسلام
بہتر ما سٹریٹس وائٹ ہاؤس
Suryant

HEAD MASTER
G.M.S Wanda Batochan
Dera Ismail Khan

محمد عارف چوکیدار
@

تشمیر درجہ چہارم ملحد زمین

السلام علیکم

عرفین ہے کہ آب آگر سدرجہ ذیل ذمہ دارانہ
 سدھنی جا رہی ہیں۔ اس کو پھر کرانے، سدھنی
 کریں۔ اور میں اسکا امید کرتا ہوں کہ آب آگر
 ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائیں۔ اور جو
 ذمہ داریاں آب آگر کے ذمہ (سیدھی) وہ آب آگر
 سکن پور پر ذمہ ہونگی۔

ذمہ داری

① زالے خان (سید سیر) سکول کھولنا۔ دستری امور۔

بشریہ کی گفتنی بجانا۔

② عارف خان (نائب واحد) چونکہ سکول کا چوسدار

ہیں یہ جبکی وجہ سے رات کی ڈیوٹی بھی عارف خان

کو سدھنی جا رہی ہے تاکہ کسی قسم کی چور کی دیکھ

سکول چوری کا اندیشہ ہے۔

③ سعید اللہ ایڈریٹس (سید سیر) سکول کی منشی ڈیوٹی

مفضل الرحمن
 سکول

① زالے خان ذریعہ تمام نواد

② عارف خان

③ سعید اللہ


سعید اللہ

SHEIKH SOHAIL AHMAD YAR

Advocate
bc-12-3280
Date of issue: February 2019
Valid upto: February 2022



ADVOCATE HIGH COURT



Cell #: 0300-4887850 E-mail: sohailpurl@gmail.com

ضلع 2 سروس سپروائزر صاحبہ کوٹوال بلڈنگ 2015 اور 2016 کے لئے

منجانب سروس سپروائزر صاحبہ نام کوٹوال بلڈنگ 2015 اور 2016 کے لئے

دعویٰ یا جرم سروس سپروائزر صاحبہ تفصیل دعویٰ یا جرم

باعث تخریب آنکھ 2015 اور 2016 کے لئے مقدمہ مندرجہ بالا عنوان میں اپنی طرف واسطے بیرونی وجوہات دہی برائے پیشی یا تفریق مقدمہ بمقام 2015 اور 2016 کے لئے

شیخ سہیل پوری ایڈووکیٹ ہائی کورٹ

کو حسب ذیل شرائط پر دیکھ کر مقرر کیا ہے کہ میں پیشی پر خود یا بذریعہ مختیار رو برو عدالت حاضر، دناروں کا کی اور ہر وقت ہمارے جانے مقدمہ میں صاحب موصوف کو اطلاع دے کر حاضرین عدالت کر دے گا اگر پیشی پر منظر حاضر نہ ہو اور مقدمہ میری غیر حاضری کی وجہ سے کسی طور میرے خلاف ہو گیا تو صاحب موصوف اس کے کسی طرح عدالتوں کے نیز وکیل صاحب موصوف صدر مقام کچہری کے علاوہ یا کچہری کے اوقات سے پہلے یا بیچے یا بروز تعطیل بیرونی کرنے کے ذمہ دار نہ ہوں گے اور مقدمہ صدر کچہری کے علاوہ اور توجہ سماعت ہونے یا بروز تعطیل ایڑ تال یا کچہری کے اوقات کے آگے یا بیچے پیش ہونے پر منظر کو کوئی نقصان پہنچے جو اس کے ذمہ دار یا اس کے واسطے کسی معاوضہ کے ادا کرنے یا اختلافات داپس کرنے کے بھی صاحب موصوف ذمہ دار نہ ہونگے مجھ کو کل ساختہ برداشت صاحب موصوف مثل کردہ دستہ خود منظور قبول ہوگا اور صاحب موصوف کو پیشی دعویٰ یا جواب دعویٰ درخواست ہائے یا جواب درخواست ہائے یا درخواست اجراء اسائے ذکر کی نظر ثانی اپیل گرائی و ہر قسم درخواست ہر قسم کے بیان دینے اور ٹائلی یا راشنی یا سہ یا فیصلہ برصانہ کرنے اقبال دعویٰ کا بھی اختیار ہوگا اور بصورت مقرر ہونے تاریخ پیشی مقدمہ مذکور بیرون از کچہری صدر بیرونی مقدمہ مذکور نظر ثانی اپیل گرائی و ہر آمدگی مقدمہ یا منسوخی ذکر کی یا کٹرنہ یا درخواست حکم اقسامی یا قرضی یا گرفتاری قبل از فیصلہ اجراء ذکر کی بھی صاحب موصوف کو بشرط ادا کی ملینہ و مختیار نہ بیرونی کا اختیار ہوگا اور تمام ساختہ برداشت صاحب موصوف مثل کردہ از منظور و قبول ہوگا اور بصورت ضرورت صاحب موصوف کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ مقدمہ مذکورہ یا اس کے کسی جرم کی کاروائی یا بصورت درخواست نظر ثانی اپیل گرائی یا دیگر معاملہ یا مقدمہ مذکورہ کسی دیکھنے، ایڈووکیٹ یا بیرونی ہونے بجائے یا اپنے امراء مقرر کرین اور ایسے مشیر قانون کو بھی ہر امر میں دہی اور ایسے اختیار حاصل ہوں گے جیسے صاحب موصوف کو حاصل ہوسکتے اور دوران مقدمہ میں جو کچھ ہر جاننا التوا ہونے کا وہ صاحب موصوف کا حق ہوگا اور ادا کیگی کا منظر یا بند و ذمہ دار ہوگا اگر صاحب موصوف کو اپنی پیشی یا اختلافات تاریخ پیشی سے پہلے عدالتوں کا کوئی مقدمہ یا جواب نہ دے کر یا اختیار ہوگا کہ مقدمہ کی بیرونی نہ کرے اور ایسی صورت میں میرا کوئی مطالبہ کسی قسم کا صاحب موصوف کے برخلاف نہیں ہوگا۔

لہذا وکالت نامہ لکھ دیا ہے تاکہ مستدر ہے۔

2023 مارچ 28 مورخہ

مضمون وکالت نامہ سن لیا ہے اور اسی طرح سمجھ لیا ہے اور منظور ہے۔

Accepted


Signature of Sheikh Sohail Puri
Sheikh Sohail Puri
Advocate High Court

Signature of Opponent



SHEIKH SOHAIL AHMAD YAR

Advocate
bc-12-3280
Date of issue: February 2019
Valid upto: February 2022



Cell # 0300-4887850 E-mail: sohailpurl@gmail.com

بعدالت حضرت 3 سروس بیسویں صبر فی حق و اولیٰ کیلئے دہا کیلئے سروس بیسویں

مخاطب نام کلکتہ سروس بیسویں صبر فی حق و اولیٰ

دعویٰ یا جرم تفصیل دعویٰ یا جرم سروس بیسویں صبر فی حق و اولیٰ

باعث تحریر آنکے دہا کیلئے سروس بیسویں صبر فی حق و اولیٰ مقدمہ مندرجہ بالا عنوان میں اپنی طرف واسطے بیرونی وجوہات سے پیشی یا تصفیہ مقدمہ بمقام کلکتہ

شیخ سہیل پوری ایڈووکیٹ ہائی کورٹ

کو حسب ذیل شرائط پر وکیل مقرر کیا ہے کہ میں پیشی پر خود یا بذریعہ مختیار رو برو عدالت حاضر ہوتا ہوں گا کی اور ہر وقت ہمارے جانے مقدمہ مکمل صاحب موصوف کا اطلاع دے کر حاضر عدالت کروں گا کی اگر پیشی پر منظر حاضر نہ ہو اور مقدمہ میری غیر حاضری کی وجہ سے کسی طور میرے خلاف ہو گیا تو صاحب موصوف اس کے کسی طرح ذمہ دار نہ ہوں گے نیز وکیل صاحب موصوف صدر مقام پکھری کے علاوہ یا پکھری کے اوقات سے پہلے یا پیچھے یا بروز تعطیل بیرونی کرنے کے ذمہ دار نہ ہوں گے اور مقدمہ صدر پکھری کے علاوہ اور تک ساعت ہونے یا بروز تعطیل ایڑتال یا پکھری کے اوقات کے آگے یا پیچھے پیش ہونے پر منظر کو کوئی نقصان پہنچے تو اس کے ذمہ دار یا اس کے واسطے کسی معاوضہ کے ادا کرنے یا سختیوں دہا نہیں کرنے کے بھی صاحب موصوف ذمہ دار نہ ہوں گے مجھ کو کل ساختہ پرواخذ صاحب موصوف مثل کردہ ذمہ دار منظور قبول ہوگا اور صاحب موصوف کو مرضی دعویٰ یا جواب دعویٰ درخواست ہائے یا جواب درخواست ہائے یا درخواست اجراء اسانے ذکر کی نظر جانی اپیل نگرانی و ہر قسم درخواست ہر قسم کے بیان دینے اور ثالثی یا راضی نامہ یا فیصلہ برعکف کرنے اقبال دعویٰ کا بھی اختیار ہوگا اور بصورت مقرر ہونے تاریخ پیشی مقدمہ مذکور بیرون از پکھری صدر بیرونی مقدمہ مذکور نظر جانی اپیل و نگرانی و برآمدگی مقدمہ یا منسوخی ذکر کی یا طرف یا درخواست حکم انتہائی یا ترقی یا اگر ترقی اپیل از فیصلہ اجراء ذکر کی بھی صاحب موصوف کو بشرط ادا جنگی علیحدہ مختیار بیرونی کا اختیار ہوگا اور تمام ساختہ پرواخذ صاحب موصوف مثل کردہ از منظور قبول ہوگا اور بصورت ضرورت صاحب موصوف کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ مقدمہ مذکور یا اس کے کسی جرم کی کارروائی یا بصورت درخواست نظر جانی اپیل نگرانی یا دیگر معاملہ یا مقدمہ مذکورہ کسی وکیل یا ایڈووکیٹ یا بیرونی ہونے بجائے یا اپنے ہمراہ مقرر کریں اور ایسے مشیر قانون کو بھی ہر امر میں وہی اور ویسے اختیار حاصل ہوں گے جیسے صاحب موصوف کو حاصل ہوں گے اور دوران مقدمہ میں جو کچھ ہر جہات سے تازہ پڑے گا وہ صاحب موصوف کا حق ہوگا اور ادائیگی کا منظر یا بند ذمہ دار ہوگا اگر صاحب موصوف کو پوری لیس اختتام تاریخ پیشی سے پہلے عدالت کروں گا تو صاحب موصوف کے ذمہ دار نہ ہوں گے اور ایسی صورت میں میرا کوئی مطالبہ کسی قسم کا صاحب موصوف کے برخلاف نہیں ہوگا۔

لہذا وکالت نامہ لکھ دیا ہے تاکہ مستند ہے۔

2023 مارچ 28 مورخہ

منصوب وکالت نامہ میں لیا ہے اور اچھی طرح لکھا گیا ہے اور منظور ہے۔

Accepted

Sheikh Sohail Purl
Advocate High Court

Handwritten signature and stamp